



اس طرح مت کہو کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ یہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور اس کہ بعد پھر جو فلاں چاہے

حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اس طرح مت کہو کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ یہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور اس کہ بعد پھر جو فلاں چاہے"

اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ ایک مسلمان دوران گفتگو "جو اللہ چاہے اور جو فلاں چاہے" کہے یا اسی طرح "جو اللہ اور فلاں چاہے" کہے ایسا اس لیے کہ اللہ کی مشیت اور اس کا ارادہ مطلق ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے جب کہ عطف کہ لیے "واو" کہ استعمال سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کہ ساتھ کوئی شریک ہے اور دونوں برابر ہیں اس لیے ایک مسلمان کو "جو اللہ چاہے اور پھر جو فلاں چاہے" کہنا چاہیے اس لیے "واو" کی جگہ پر "ثم" کہ استعمال سے بندہ کی مشیت اللہ کی مشیت کہ تابع ہو جائے گی کیوں کہ "ثم" کسی کام کہ کچھ دیر بعد ہونے کا فائدہ دیتا ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3352>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

